

Date: July 27, 2023

The General Manager

Pakistan Stock Exchange,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

SUBJECT: Newspaper Publication in respect of Purchase/ (Buy-Back) of Shares under Section 10(f) of the Listed Companies (Buy Back of Shares) Regulation, 2019.

Dear Sir,

As required under regulation 10(f) of the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulation, 2019, Please find enclosed the newspaper clippings of publication in respect of purchase/buy-back of up to 50,000,000 (Fifty Million) issued and paid-up ordinary shares of the TPL Properties Limited.

Yours sincerely,



Danish Qazi
Company Secretary

Diesel Generators

- Available Ex-Stock 8 KVA-2250 KVA
- Now available genuine and complete range of spare parts/filters from F.O. Wilson
- Skilled facility

For sales, service & spare parts contact:

S.M. JAFFER & CO.
MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERS
Karachi, Hyderabad, Sukkur, Quetta, Multan, Lahore & Islamabad
Tel: 021-3280176-83, 0300-111-765-765, Fax: 021-3280176
Email: info@smjaffer.com

BUSINESS RECORDER

Founded by M.A. Zuberi

www.brecorder.com

Fast CABLES

FAST TASDEEQ PLUS
PAKISTAN'S 1st & Only QR Code based
CABLES & DOCUMENT
verification service for industrial
& commercial security

QR CODE

0300-942-111-000-342 | www.fast-cables.com

Simultaneously published from Karachi,
Lahore & Islamabad
Pages 16 -- Price Rs 25

TPL Properties

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR BUY BACK OF SHARES BY TPL PROPERTIES LIMITED

Information	Description
Name and address of the registered office of the purchasing Company:	TPL Properties Limited 20th Floor, Sky Tower-East Wing, Dolmen City, HC-3, Block 4, Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi.
Purpose of the purchase:	The shares will be cancelled by the Company after the purchase.
Indicative quantum of the purchase both in terms of number and as a percentage of the paid up capital of the purchasing company:	Up to an aggregate of 50,000,000 (Fifty Million) issued and paid-up ordinary shares of the Company having paid-up/face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten Only) each, constituting up to approximately 8.77% of the current issued and paid up share capital of the Company.
Date of commencement of the purchase:	August 02, 2023
Duration of the purchase period:	August 02, 2023 to January 29, 2024 (both days inclusive) or till such date that the purchase is complete, whichever is earlier.
Name of the securities exchange:	Pakistan Stock Exchange Limited
Name, phone number, postal and email addresses of the authorized officer appointed by purchasing Company:	Mr. Danish Qazi Group General Counsel & Company Secretary Postal Address: 20th Floor, Sky Tower - East Wing, Dolmen City, HC-3, Block 4, Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi. Phone Number: +92.21.34390300 Ext: 30412 Email ID: company.secretary@tplholdings.com
Name, contact number(s), postal & email address of the contact person appointed by the Company to handle queries and complaints regarding the Purchase:	Mrs. Shayan Mufti Assistant Group General Counsel Postal Address: 20th Floor, Sky Tower - East Wing, Dolmen City, HC-3, Block 4, Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi. Phone Number: +92.21.34390300 Ext: 30431 Email ID: company.secretary@tplholdings.com
Any other information the purchasing company deems necessary to provide:	The Shares of the Company shall be purchased at the spot/current prevailing price. The Company will make sure to have sufficient funds for the shares to be purchased throughout the designated purchase period. The actual purchase of shares by the Company shall be subject to varying factors during the designated purchase period, including market conditions.

It is clarified that all those persons who validly hold shares of the purchasing company except for the persons mentioned in regulation 12(2) of these regulations are eligible to participate in the purchase even if their names do not appear on Members' register of the purchasing Company.

Date: **July 27th, 2023**

Place: **Karachi**

Danish Qazi

Group General Counsel & Company Secretary

